



”میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ہمارے سب کے خواب آخری سات تاریخوں پر متفق ہو گئے ہیں اس لیے جسے اس (شب قدر) کی تلاش ہو وہ آخری سات راتوں میں تلاش کرے“

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے: نبی ﷺ کے کچھ صحابہ کو خواب میں دکھایا گیا کہ شب قدر (رمضان کی) آخری سات تاریخوں میں سے اس پر آپ ﷺ نے فرمایا: ”میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ہمارے سب کے خواب آخری سات تاریخوں پر متفق ہو گئے ہیں اس لیے جسے اس (شب قدر) کی تلاش ہو وہ آخری سات راتوں میں تلاش کرے“

[صحیح] [متفق علیہ]

اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ نے خواب میں دیکھا کہ شب قدر رمضان کی آخری سات راتوں میں ہوا کرتی ہے لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں دیکھ رہا ہوں کہ تم سب کے خواب رمضان کی آخری سات راتوں کے بارے میں متفق ہیں اس لیے جس کے اندر اس رات کو پانے کا ارادہ اور چاہت ہو، وہ زیادہ سے زیادہ عمل صالح کے ذریعے اس رات کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے کیوں کہ آخری سات راتوں کے اندر شب قدر ہونے کی توقع زیادہ ہے آخری سات راتیں رمضان مہینے کے تیس دن کے ہونے کی صورت میں چوبیسویں رات سے شروع ہوتی ہیں اور انیس دن کے ہونے کی صورت میں تیسویں رات سے شروع ہوتی ہیں

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/4545>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

